

کسٹمر نمبر \_\_\_\_\_  
(صرف بینک کے استعمال کے لیے)

تاریخ \_\_\_\_\_  
D D M M Y Y Y Y

برانچ کا نام \_\_\_\_\_

برانچ کوڈ \_\_\_\_\_

## فٹڈ کی منتقلی/بیٹھ انسٹرومنٹ کے اجراء کی درخواست

براہ مہربانی درج ذیل ہدایات کے مطابق بیٹھ انسٹرومنٹ کا اجراء کریں/فٹڈ انسٹرومنٹ کریں:

الائیڈ بینکر چیک (اے بی سی)  کال ڈپازٹ رسید (سی ڈی آر)  ریٹیل ٹائم گراس سیٹلمینٹ (آر ٹی جی ایس)  فارن ٹیلی گرانٹ ٹرانسفر (ایف ٹی ٹی)  دیگر \_\_\_\_\_  
 کرنسی  پاکستانی روپیہ  امریکی ڈالر  پاؤنڈ  یورو  ین  دیگر \_\_\_\_\_  
 کل رقم (ہندسوں میں) \_\_\_\_\_ کل رقم (لفظوں میں) \_\_\_\_\_  
 (براہ مہربانی تفصیل فراہم کریں) (براہ مہربانی تفصیل فراہم کریں)

## وصول کنندہ کی تفصیلات

نام\* \_\_\_\_\_  
 شناختی دستاویز نمبر\*\* \_\_\_\_\_  
 این ٹی این (جہاں قابل اطلاق ہو): \_\_\_\_\_  
 ٹیلی فون نمبر/موبائل نمبر\* \_\_\_\_\_  
 برانچ \_\_\_\_\_  
 آئی بی اے این/اکاؤنٹ نمبر/ \_\_\_\_\_  
 راست آئی ڈی \_\_\_\_\_  
 (ایف ٹی ٹی کی صورت میں درکار اضافی معلومات)\* \_\_\_\_\_  
 فارن بینک/برانچ کا پتہ \_\_\_\_\_  
 Sort / SWIFT کوڈ \_\_\_\_\_

## درخواست گزار کے کوائف

نام\* \_\_\_\_\_  
 شناختی دستاویز نمبر\*\* \_\_\_\_\_  
 این ٹی این (جہاں قابل اطلاق ہو): \_\_\_\_\_  
 ٹیلی فون نمبر/موبائل نمبر\* \_\_\_\_\_  
 ٹرانزیکشن کا مقصد\* \_\_\_\_\_  
 (کسی مقامی/بین الاقوامی بینک کو فٹڈ کی منتقلی کی صورت میں درکار اضافی معلومات)\* \_\_\_\_\_  
 درخواست گزار اور وصول کنندہ کے درمیان تعلق: \_\_\_\_\_  
 فٹڈ سے مستفید ہونے والے بینیفیشیل اوئر/اوزر کی تفصیلات، اگر وہ درخواست گزار کے علاوہ کوئی اور ہو/ہوں (جہاں قابل اطلاق ہو): \_\_\_\_\_  
 نام \_\_\_\_\_ شناختی دستاویز نمبر \_\_\_\_\_ ٹیلی فون نمبر/موبائل نمبر \_\_\_\_\_

## ادائیگی کا طریقہ

کیش  چیک نمبر \_\_\_\_\_  بائیو میٹرک تصدیق  
 میں اپنی بائیو میٹرک تصدیق کے ذریعے، بینک کو اجازت دیتا ہوں/دیتی ہوں کہ وہ میرے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن کی رقم جمع بینک چارج منہا کر لے۔  
 آئی بی اے این/اکاؤنٹ نمبر\* \_\_\_\_\_  
 برانچ\* \_\_\_\_\_

## صرف بینک کے استعمال کے لیے

FBP Validation

مجاز دستخط \_\_\_\_\_

مجاز دستخط \_\_\_\_\_

میں اقرار کرتا کرتی ہوں کہ اس فارم میں فراہم کردہ معلومات درست اور قابل تصدیق ہیں اور ہر طرح کے رسک اور تمام نتائج کی ذمہ داری میری ہے۔ مزید، میں اس بات کی تصدیق کرتا کرتی ہوں کہ میں نے اس ورق کی پشت پر مذکور شرائط و ضوابط کو پڑھ لیا اور سمجھ لیا ہے اور بیٹھ انسٹرومنٹ وصول کر لیا ہے/ر رسید وصول کر لی ہے۔

درخواست گزار کے دستخط/انگوٹھے کا نشان\*\*\*\*

\* لازمی معلومات

\*\* واک ان کسٹمر کی صورت میں شناختی دستاویز نمبر اور اس کی مصدقہ فوٹوکاپی فراہم کرنا لازمی ہے۔ (کسٹمر کی بائیو میٹرک تصدیق کے بعد کی جانے والی ٹرانزیکشن پر قابل اطلاق نہیں)۔

\*\*\* ادائیگی کے طریقہ کار سے قطع نظر، اے بی این اکاؤنٹ ہولڈر کی صورت میں لازمی معلومات

\*\*\*\* بینیفیشی/واحد ملینٹی اکاؤنٹ کی صورت میں ایس ایس کارڈ کے مطابق ممبر/سل درکار ہے (جہاں قابل اطلاق ہو)

## فنڈز کی منتقلی / پیمنٹ انسٹرومنٹ (انسٹرومنٹس) کے اجراء کی شرائط و ضوابط

فنڈز کی منتقلی / پیمنٹ انسٹرومنٹ (انسٹرومنٹس) کے اجراء کی درخواست کرتے ہوئے، درخواست گزار اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ مذکورہ منتقلی / اجراء درج ذیل شرائط و ضوابط سے مشروط ہوگا:

1. الائیڈ بینک لمیٹڈ (جسے اب کے بعد اس متن میں "بینک" کہا جائے گا) کی جانب سے فنڈز کی منتقلی کی ہدایات میں بیان کردہ مقامی یا غیر ملکی کرنسی میں فنڈز کی منتقلی کے اس معاہدہ کی تعمیل، حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تمام فی الوقت اور بعد از ان مذکورہ معاہدہ سے متعلق قوانین، ضوابط، ڈگریوں، انتظامی قواعد، احکامات اور ہدایت ناموں سے مشروط ہوگی۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ درخواست گزار بینک اور اس برانچ، مرکزی دفتر، دیگر برانچوں، ماتحت اداروں اور الحاق شدہ اداروں کے ساتھ ساتھ بینک کے ڈائریکٹروں، انسٹرومنٹس اور ملازمین کو کسی بھی ایسے نقصان کی تلافی کرنے کا اور اسے اس نقصان سے محفوظ رکھے گا جو انہیں یا ان میں سے کسی کو بھی اس طرح کے کسی بھی قوانین، ڈگریوں، انتظامی قواعد، احکامات یا ہدایت ناموں کی وجہ سے منتقلی کی ان شرائط و ضوابط کے تحت ترسیلات زر کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ دھوکہ دہی پر مبنی کسی عمل کے نتیجہ میں اٹھانا یا برداشت کرنا پڑے اور اس میں ایسی ہدایات شامل ہوں گی جو الیکٹرانک میل، فائل ٹرانسفر، بلیکس، فون، فیکس، مسینجر، پیپر میل، آواز یا ایسے دیگر دستی ذرائع سے کی گئی ہوں۔
2. بینک ایسے پیمنٹ انسٹرومنٹس جو اس برانچ میں قابل ادا ہونگی نہیں ہیں صرف درخواست گزار کی ذمہ داری پر ترسیل کے لیے قبول کرے گا۔ بینک کسی بھی نقصان یا تاخیر کا ذمہ دار نہیں ہوگا جو ہر حال، قدرتی آفت، حکومتی کارروائی، یا اس کے اختیار سے باہر دیگر وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے اور نہ ہی اپنے کسی تجارتی نمائندے، نمائندے یا ذیلی نمائندے یا ان کے ملازمین کے کسی بھی عمل، کوتاہی، غفلت، عدم تعمیل، ناکامی یا دیوالیہ پن کے لیے ذمہ دار ہوگا۔
3. بینک، بینک کو موصول ہونے والی درخواست پر بینکاری کے اوقات کے دوران اور اسی دن کارروائی کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرے گا۔ مذکورہ مقررہ اوقات کے بعد موصول ہونے والی درخواستوں پر اگلے کاروباری دن کو کارروائی کی جائے گی۔ یہ بھی واضح رہے کہ بینک اقوامی معاہدے کے ذریعے ترسیل کے لیے مقررہ اوقات کی وجہ سے، یہ بھی ممکن ہے کہ ادا ہونگی درخواست کی تاریخ پر نہ ہو سکے اور بینک کے ملازمین، تجارتی نمائندوں یا تیسرے فریقین کی جانب سے ادا ہونگی کے لیے ترسیل میں تاخیر کے نتیجہ میں بینک کسی نقصان کا ذمہ دار نہ ہوگا۔
4. بینک اے بی سی / سی ڈی آر وغیرہ (اب کے بعد اس متن میں سے پیمنٹ انسٹرومنٹ کہا جائے گا) کے اجراء کے لیے یا اس معاہدہ کے مطابق ترسیلات زر کے لیے اپنے معمول کے اقدامات کر سکتا ہے اور ایسا کرنے میں بینک کسی بھی تجارتی نمائندے، ذیلی نمائندے یا دیگر ایجنسی کی خدمات استعمال کرنے کے لیے درخواست گزار کی جانب سے آزاد ہوگا، لیکن کسی بھی صورت میں بینک یا اس کا کوئی تجارتی نمائندہ یا ایجنٹ تار / کیبل / ٹیلیکس / سوئفٹ میں یا کسی کیبل یا وائر لیس کپنی یا اتھارٹی یا ایسی کپنی یا اتھارٹی کے کسی ملازم کی جانب سے یا کسی دیگر وجہ سے ہونے والی خرابیوں، رکاوٹوں، بھول چوک، غلطیوں یا تاخیر کے لیے ذمہ دار نہ ہوگا۔ بینک اس منتقلی سے متعلق کوئی بھی پیغام واضح زبان، کوڈ یا رمزی تحریر (cipher) میں بھیج سکتا ہے۔
5. تمام ترسیلات زر پر بینک کے وقتاً فوقتاً نظر ثانی شدہ چارجز کے شیڈول کے مطابق چارجز لاگو ہوتے ہیں اور ایسے چارجز متعلقہ درخواست گزار کے اکاؤنٹ سے بینک براہ راست ڈیبٹ کر سکتا ہے۔ ترسیلات زر لاگو محصولات یا ڈیویڈنڈ سے بھی مشروط ہیں جو حکومت پاکستان یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے عائد کی جا سکتی ہیں۔
6. بینک کی جانب سے درخواست گزار کی وصول کردہ رقم کو غیر ملکی مالیت / مقامی مالیت میں تبدیل کرنے کے لیے لاگو کردہ شرح مبادلہ کے متعلق یہی سمجھا جائے گا کہ درخواست گزار اسے تسلیم کرتا ہے۔
7. بیرون پاکستان تمام چارجز کمیشن وصول کنندہ کے اکاؤنٹ سے منہا کیے جائیں گے جب تک کہ بصورت دیگر واضح طور پر بیان نہ کیا جائے۔
8. فارن کرنسی ٹیلی گرافک ٹرانسفر کی صورت میں، ترسیلات زر بینک یا اس کے نمائندگان کی جانب سے درخواست گزار کی مکمل ذمہ داری اور خرچے پر بھیجی جاتی ہیں، اور بینک یا اس کے نمائندہ کو کسی ایسی غلطی، کوتاہی، تاخیر، نظام مواصلات کی خرابی وغیرہ کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا جو اس کی ترسیل میں پیدا ہو سکتی ہے اور جو رقم منتقل کیے جانے والی جگہ پر پیغام کی غلط تعبیر کا سبب بن سکتی ہے۔
9. اگر امور کار کی صورت حال کا تقاضا ہو تو بینک ارسال کنندہ کی جانب سے بیان کردہ جگہ کے علاوہ کسی مختلف جگہ سے کسی بھی ذریعہ (جیسے (SWIFT)، ای میل وغیرہ) سے خارجی پیغامات بھیجنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔
10. پیمنٹ انسٹرومنٹس کے عوض ادا ہونگی، عمومی کاروباری امور میں صرف وصول کنندہ / وصول کنندگان کو ہی کی جائے گی۔
11. پیمنٹ انسٹرومنٹس کی زر نقد میں تبدیلی یا منتقل شدہ رقم کی ادا ہونگی اس ملک کے قواعد و ضوابط کے تابع ہے جہاں پیمنٹ انسٹرومنٹ کو زر نقد میں تبدیل کیا جاتا ہے یا ادا ہونگی کی جاتی ہے۔ پیمنٹ انسٹرومنٹ کی زر نقد میں تبدیلی یا منتقل شدہ رقم کی ادا ہونگی کے سلسلے میں بینک کی ذمہ داری کسی بھی صورت میں اس حد سے زیادہ نہیں ہوگی جس حد تک اس کرنسی میں ادا ہونگی کی اجازت دی گئی ہو جس میں پیمنٹ انسٹرومنٹ جاری کیا گیا ہو یا منتقل شدہ رقم ادا کی جاتی ہو۔ کسی بھی حکومت یا سرکاری ایجنسی کے کسی عمل یا حکم کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے نتیجے یا انجام کے سبب ہونے والی کسی تاخیر یا نقصان کے لیے بینک اس کا مرکزی دفتر بینک کی دیگر شاخوں اور اس کے تجارتی نمائندے یا ایجنٹ ذمہ دار نہ ہوں گے۔
12. اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ اگر متعلقہ پیمنٹ انسٹرومنٹ گم، چوری یا ضائع ہو جائے، تو ڈبلیو پیمنٹ انسٹرومنٹ کے اجراء کے لیے دی جانے والی کسی بھی درخواست کے حوالے سے یا پیمنٹ انسٹرومنٹ کی رقم کی واپسی کے حوالے سے بینک کو درخواست گزار کی جانب سے بینک کو قابل قبول ضمانت اور دیگر مطلوبہ دستاویزات فراہم کی جائیں گی جن کا مقصد بینک کو گم، چوری یا ضائع ہونے والے پیمنٹ انسٹرومنٹس کے حوالے سے کسی بھی ذمہ داری سے محفوظ فراہم کرتا ہے۔
13. اگر درخواست گزار کی جانب سے اصل پیمنٹ انسٹرومنٹ جیسے اے بی سی، سی ڈی آر وغیرہ کی رقم سے دست بردار ہونے / دوبارہ خریدنے کی خواہش ظاہر کی جائے، تو مذکورہ پیمنٹ انسٹرومنٹ کی دوبارہ خرید بینک کی مجوزہ شرائط اور دوبارہ خرید کے دن مذکورہ رقم کے لیے راجح شرح خرید پر کی جائے گی اور اس میں سے بینک کی مروریہ یا ایسی کے مطابق لاگولائٹ، چارجز یا اخراجات کو منہا کر دیا جائے گا، بشرطیکہ بینک کے پاس وہ فنڈز موجود ہوں جن کے عوض کسی بھی تبادلے یا دیگر پابندیوں سے آزاد مذکورہ پیمنٹ انسٹرومنٹ جاری کیا گیا تھا اور یہ کہ اصل پیمنٹ انسٹرومنٹ بینک کو واپس کر دیا گیا ہو۔
14. درخواست گزار کی جانب سے ادا ہونگی کے ڈبلیو پیمنٹ انسٹرومنٹ کی منسوخی رقم کی واپسی کے لیے درخواست دینے جانے کی صورت میں، بینک کی جانب سے وقتاً فوقتاً مقرر کردہ حد کے مطابق، وصول کنندہ، بینک کے دعویٰ کی ادا ہونگی کے لیے اس کی تظہیر کرے گا اور اس طرح کی ادا ہونگی کے بعد ہی رقم واپس کی جائے گی۔
15. اگر کسی بھی طریقے سے منتقل کی گئی رقم کی واپسی درخواست گزار کی جانب سے مطلوب ہو تو بینک درخواست گزار کی ذمہ داری اور خرچے پر اور بینک کی مروریہ یا ایسی کے مطابق قابل اطلاق لاگولٹوں، اخراجات، چارجز کی ادا ہونگی اور درخواست گزار کی جانب سے بینک کو قابل قبول شکل اور حالت میں ضمانت جمع کروانے سے مشروط منتقلی الیہ بینک ادارے سے مذکورہ منتقل کردہ رقم کی واپسی کی کوشش کرے گا۔ تاہم، بینک اس بات کا یقین نہیں دلاتا یا ضمانت نہیں دیتا کہ بیلے سے منتقل کردہ یا بھیجی گئی رقم وصول کنندہ کی جانب سے واپس کی جائیں گی۔ ایسی صورت میں، بینک کسی ذمہ داری یا جواب دہی کا پابند نہیں ہوگا۔
16. درخواست گزار بذریعہ ہذا بینک کے خلاف ہر طرح کے دعویٰ جات سے دستبردار ہوتا ہے جو درخواست گزار کی جانب سے ان شرائط کے تحت درخواست کردہ رقم کی منتقلی سے پیدا ہوں یا اس سے متعلق ہوں، سوائے اس کے کہ ایسا دعویٰ بینک کی جانب سے دھوکہ دہی یا دانستہ عدم تعمیل کی وجہ سے کیا گیا ہو۔
17. درخواست گزار بذریعہ ہذا یہ اقرار کرتا ہے کہ درخواست گزار نے ان شرائط و ضوابط کو پڑھ لیا ہے اور سمجھ لیا ہے اور مزید رقم کی منتقلی / پیمنٹ انسٹرومنٹس کے اجراء کے حوالے سے بینک کی مذکورہ بالا شرائط و ضوابط کا پابند ہونے سے اتفاق کرتا ہے اور یہ کہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ بینک کی جانب سے وقتاً فوقتاً ان میں تبدیلیاں یا ترامیم کی جا سکتی ہیں۔